

سید فضل الرحمن

قاموس الحدیث



﴿الف﴾

إِبْتِئَاتٌ: کاشا۔

إِبْتِئَارٌ: نہ دینا۔ نسل کاٹ دینا۔ دم کٹا کر دینا۔

إِبْتِدَاءٌ: شروع کرنا۔

أَبْتَرُ: دم کٹا۔ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ نامراد۔ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ

أَبْتَرٌ۔ ہر شان والا کام جس کے شروع میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے وہ ناقص رہے گا۔

إِبْتِخَاحٌ: ارزائی میں ہونا۔ کشادگی میں ہونا۔

إِبْدَعْرَازٌ: پراگندہ ہونا۔ پھیل جانا۔ جدا ہونا۔ اِبْدَعْرَ الْيَفَاقُ۔ نفاق پھیل گیا۔

إِبْتِدَالٌ: پرانے کپڑے پہننا۔ حقارت سے کام لینا۔ بناؤ سنگار نہ کرنا۔

إِبْرِيحُ: دودھ بلونے کا آلہ۔ جمع أَبَارِيحُ۔

إِبْرَاحُ: پسند کرنا۔ مبالغہ کرنا۔ تعظیم کرنا۔

إِبْرَاقٌ: ناتواں کر دینا۔ ٹھنڈا کر کے لانا۔

إِبْتِرَاقٌ: ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا۔

أَبْرَدَانٌ: صبح و شام۔ بَكَانَ يَسِيرُ بِنَا الْآبَرَدَيْنِ، وہ صبح و شام ہمیں لے کر چلتے۔

إِبْرِدَةٌ: پیٹ کی ٹھنڈک۔

اِبْرَازٌ: خشکی میں سفر کرنا۔ اولاد بہت ہونا۔ قبول کرنا۔ غالب ہونا۔

اِبْتِرَازٌ: الگ رہنا۔ جدا رہنا۔

اِبْرَازٌ: سفر کا قصد کرنا۔

اَبْرُصٌ: کوڑھی مرد۔ برص والا ہونا۔ جمع بُرُصٌ۔

اِبْشَاتٌ: کھولنا۔ ظاہر کرنا۔

اِبْتِرَازٌ: دوڑنا۔

اَبْجَرٌ: اونچی ناف والا۔ بڑے پیٹ والا۔ توند والا۔ ابھر اہوا۔

اِبْجِرَازٌ: ناف نکل آنا۔ پیٹ بڑا ہو جانا۔ سیراب نہ ہونا۔ لٹک جانا۔

اِبْجَالٌ: کافی ہونا۔

اَبْجَرٌ: شدید اقلاس کے بعد دولت مند ہونا۔

اَبْجَلَةٌ: خوش کرنا۔ کفایت کرنا۔

اِبْجَاحٌ: گلابٹھا دینا۔ آواز بھاری کر دینا۔

اَبْجٌ: جس کی آواز ٹٹھی ہوئی ہو۔ بھاری آواز والا۔ موٹی نگڑی۔ دینار۔

اِبْجَحَةٌ: آواز بھاری کر دینا۔ گلابٹھا دینا۔

اِبْجَارٌ: سمندر میں سوار ہونا۔ پانی نمکین ہونا۔ ناک سرخ ہو جانا۔

اَبْجَوٌ: سمندر میں سفر کرنا۔ پانی نمکین ہونا۔ ناک سرخ ہو جانا۔

اِبْجَارٌ: گندہ دہن کرنا۔ منہ میں بد بو کرنا۔

اِبْجَحْرٌ: بد بو دار منہ والا۔

اِبْجَاقٌ: آنکھ پھوڑنا۔

اِبْجَالٌ: کسی کو بخیل پانا۔

اِبْدَاءٌ: نادر بات لانا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا۔ ابتداء پیدا کرنا۔

اِبْدُوْجٌ: وہ منہ جو زین کے نیچے رکھتے ہیں، تاکہ گھوڑے کی پیٹھ زخمی نہ ہو۔

اِبْدَادٌ: لبا کرنا۔ پھیلانا۔ دینا۔ بائنا۔ تقسیم کرنا۔

اِبْدَاعٌ: شروع شروع کرنا۔ نئی چیز نکالنا۔ پیدا کرنا۔ نادر بات کرنا۔

اِبْتِدَاعٌ: بدعت نکالنا۔

إِبْدَالٌ: بدلنا۔ بدلہ لینا۔

إِبْدَالٌ: اولیاء اللہ کا ایک گروہ۔ الْآبِدُلُّ بِالشَّامِ وَ النَّجْبَاءُ بِمِصْرَ وَالْعَصَائِبُ بِالْعِرَاقِ۔ ابدال شام کے ملک میں رہتے ہیں نجبا مصر میں اور عصائب عراق میں رہتے ہیں۔

الْبَيْتَةُ: یقیناً۔ قطعاً۔

إِنَاءٌ: برتن۔ جمع انیئة۔

الْأَنَامُ: اللہ کی مخلوق۔

إِنجیل: وہ آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ جمع اناجیل۔ انجیل یونانی لفظ ہے جس کے معنی خوش خبری کے ہیں۔

أَنْدَرٌ: انوکھی بات کہنا۔ انوکھا کام کرنا۔ کسی چیز کو گرا دینا۔ أَنْدَرْتُ يَدَ فُلَانٍ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ میں نے فلاں شخص کو اس کام سے روک دیا۔

أَنْدَرٌ: کھلیان۔ اناج کا ڈھیر۔ جمع انادر۔

أَنْدَرٌ: شام کا ایک شہر جس کی شراب مشہور تھی۔

أَنْدَرٌ وَرَدِيَّةٌ: چھوٹی ازار جو گھنٹوں تک ہوتی ہے۔ جاگلیا۔ ایک مقام کا نام۔

أَنْسٌ: أَنْسٌ، أَنْسَةٌ۔ الفت، دل لگی۔ كَأَنَّهُ أَنْسٌ شَيْئًا۔ گویا انہوں نے ایک نئی بات دیکھی جو پہلے نہ تھی أَنْسٌ بِالْعَفْوِ۔ اس نے قصور معاف کر کے دوست بنا لیا۔

أَنْفٌ: (ن، ض) ناک، قوم کا سردار، پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا گوشہ، ابتدائی حصہ، غیرت، حمیت، روٹی کا ٹکڑا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةٌ وَأَنْفَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا پہلی تکبیر ہے۔ (تکبیر تحریر یہ)۔ أَنْزَلْتُ عَلَى سُورَةِ أَنْفَا۔ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ شَجَاعَةُ الْمَرْءِ عَلَى قَدَرِ أَنْفِيهِ، آدمی اتنا ہی بہادر ہوگا جتنی

اس میں غیرت و حمیت ہوگی۔

أَنْقٌ: خوشی سرور، خوش منظر ہونا۔ آراستہ ہونا۔ أَنْقَ الشَّيْءُ تَأْنِيْقًا۔ خوش نما بنانا۔ شَيْءٌ أَنْقٌ، تعجب میں ڈالنے والی شے، مَآئِنُ غَاشِيَةٍ أَطْوَلُ أَنْقًا وَلَا أَبْعَدُ شَبْعًا مِنْ طَالِبِ الْعِلْمِ، رات کو چرنے والا کوئی جانور طالب علم سے زیادہ مزہ اٹھانے والا نہیں اور نہ طالب علم سے زیادہ دیر میں سیر ہونے والا ہے۔ (طالب علم کبھی علم حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا)

أَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الْأَنْوَقِ۔ عقاب کے انڈوں سے زیادہ تیاہ۔

انکاً: بڑا اور موٹا ہوتا۔

الآنک: سیسہ۔

آنکۃ: سیسہ۔

الآنقلیس: بام مچھلی جو سانپ کی طرح ہوتی ہے۔

انملة: پور۔ انگلی کا سرا۔ جمع انامل۔

انئ: وقت آجانا۔ قریب ہونا۔ کسی چیز کے پکنے کا وقت آجانا۔ گرمی کا انتہا کو پہنچنا۔

انئ: جہاں کہاں سے، جیسے، کب، کیسے۔ انئ لک هذا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ انئ

جنت۔ تو کب آیا۔ انئ یحییٰ هذه اللہ بعد موتہا۔ مرنے کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ

کرے گا۔ انئ الجنة، جنت کے برتن۔ العریان للرجیل۔ کیا کوچ کا وقت نہیں

ہوا۔ هل انئ الرجیل یا هل انئ الرجیل (حدیث میں دو طرح آیا ہے) کیا کوچ

کا وقت ہو گیا، غیر ناظرین اناہ۔ کھانا پکنے کے وقت تاک کر نہ آؤ۔ (بلکہ بلاپئے جانے پر

آؤ)۔ الا نانا من اللہ والعجلۃ من الشیطن۔ تحمل اور آہنگی اللہ کی طرف سے ہے

اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اناہ اللیل۔ رات کے وقت۔ لا توؤن فرصتک

تاخیر نہ کر، موخر نہ کر۔

انیس: مانوس۔ آنست منه رُشدًا۔ مجھے اس کے اندر خیر نظر آئی۔

انیق: خوب صورت، خوش کن۔

اویا: حرف عطف برائے شک۔ برائے ابہام، برائے اضطراب۔ برائے تقسیم وغیرہ۔ اللہم

اغفر لی اودعا۔ اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی اور دعا کی۔ او کما قال۔ یا جیسے آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اوب: (ن) لوٹنا۔ رجوع کرنا۔ سرعت، قصد، استقامت۔ راستہ۔ طرف، توبہ کرنا، جاء و من

کلّی اوب۔ ہر طرف سے آپہنچے۔ ائبون تاء یون۔ لوٹنے والے توبہ کرنے والے۔

لا نصل بعد العصر حتی تووب الشمس عصر کے بعد نفل نماز نہ پڑھ یہاں تک کہ

سورج ڈوب جائے۔

اود، اودا: مڑ جانا۔ ٹیز ہا ہونا۔ تھکا دینا، بوجھل بنا دینا۔ واغمرأه اقام الاود و شقی العمدة۔

ہائے عمر جس نے ٹیزھے گوسیدھا کیا اور بیمار کو اچھا کیا۔ (یہ جملہ حضرت صہیبؓ نے حضرت

عمر کی وفات پر کہا تھا)

أَوَا: گرمی۔ پیاس۔ آگ کا شعلہ۔ دھواں۔ جمع أَوْرٌ۔

أَوَانٌ: بوری، وقت، موسم، جمع، أَوْنَةٌ۔ جَاءَ أَوَانُ الْبُرْدِ، سردی کا موسم آیا۔ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ۔ بے موسم، بے موقع۔

أَوْسٌ: انصار مدینہ کا ایک قبیلہ۔ عطیہ۔ عوض دینا۔ بھیڑیا۔

أَوْطَاسٌ: طائف کے قریب ایک مقام۔

أَوْقٌ: بوجھ۔ گرانی۔ شامت۔ نحوست۔ برا شگون۔

أَوْقِيَةٌ: چالیس درہم کے برابر ایک وزن۔ ایک اونس کے برابر۔ جمع أَوْاقِيٌّ۔ لَا صَدَقَةَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوْاقِدٍ۔ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔

أَوَّلٌ: پہلا۔ جمع أَوَّلٌ۔ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے پہلا فرماں بردار۔ أَوَّلُ بَيْتٍ يُضَعُ

لِلنَّاسِ۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ أَوَّلُ بَيْتٍ حُجِّ

بَعْدَ الطُّوفَانِ۔ طوفانِ نوح کے بعد (خانہ کعبہ) پہلا گھر ہے جس کا حج کیا گیا۔ (ابن

عباس)۔ الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ۔ شروع میں ہر نماز دو رکعتیں فرض

ہوئیں۔ أَوَّلُ مَا يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے

پہنائے جائیں گے۔ (قیامت کے دن) بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ۔ اللہ کے نام سے

کھانے کا شروع اور آخر (کھاتا ہوں)

أَوْمِيٌّ: اشارہ کرنا، اومی للركوع والسجود، رکوع اور سجدے کے لئے اشارہ کرنا۔

أَوَاءٌ: بہت کراہنے والا۔

أَوْهَاءٌ: آہا: کراہنا۔ آہ کرنا۔ کلمہ در درو رخ۔

أَوْيٌّ: إِيَاءٌ: پناہ لینا۔ جگہ دینا۔ ٹھکانا بنانا۔ مائل ہونا۔ لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ الْأَضَالُ۔ گم راہ کو گم راہ ہی

جگہ دیتا ہے۔ مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ فِرَاشَهُ كَمَسْجِدِهِ۔ جو شخص وضو کر

کے اپنے بستر پر لیئے تو اس کا بستر اس کی مسجد کی طرح ہوگا۔ (اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے

گا) أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّانَا وَأَوَّانَا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے جو ہمیں کافی ہوا اور جس

نے ہمیں رہنے کی جگہ دی۔

إِهَابٌ: کچا چمڑہ، کچی کھال۔ دباغت نہ کیا ہوا چمڑا۔ جمع أَهَابٌ۔ أَيْمَاهَابٌ ذُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ، جو چمڑا

دباغت کر لیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اَلْاُھْبَةُ ثَلَاثَةٌ (گھر میں کوئی سامان نہ تھا) سوائے تین کچے چیزوں کے۔

اِھَابٌ یَاۡیَھَابٌ: مدینے کے نواح میں ایک مقام کا نام۔ حَتّٰی یَبْلُغَ الْمَسَاكِنُ اِھَابٌ یَاۡیَھَابٌ۔ یہاں تک کہ مدینے کی آبادی اِھَابٌ یَاۡیَھَابٌ تک پہنچے۔

اُھْبَةٌ: تیاری۔ سامان سفر۔ جَمْعُ اُھْبٍ. عَلٰی اُھْبَةِ السَّفَرِ۔ پاہرکاب۔ سفر کے لئے تیار۔ اَھْلٌ لِاَلْق: مہذب۔ شائستہ۔ بیوی۔ کنبے والے۔ جَمْعُ اَھْلُوْنَ وَاَھْلُوْنَ۔ اَھْلُ الشَّئِ وَالْمَجْدِ تعریف اور بزرگی کے لائق۔ اَھْلُ الْقُرْآنِ هُمُ اَھْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ۔ قرآن کے حافظ اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔

اَھْلُ الْکِتَابِ: یہود و نصاریٰ۔ اَھْلُ الْوَبْرِ: صحرا کے رہنے والے۔ اَھْلُ الدَّارِ: گھر کے لوگ

اِھِلُّ: بیوی بچوں والا۔

اِھْلَاکٌ: ہلاک کرنا۔ مارڈالنا۔ فروخت کرنا۔

اِھْلَالٌ: پہلی تاریخ کا چاند نکلتا۔

اِھْمٌ: زیادہ سنجیدہ۔ اہم۔

اِھْمَامٌ: غم گین کرنا۔ فکر مند کرنا۔

اِھْوَاءٌ: خواہشیں۔ واحد ھَوٰی

اِھْوَنٌ: آسان تر۔ نرم تر۔

اِھْوٰی: زیادہ پسندیدہ۔

اِیٌّ: کون۔ کون سا۔

اِیٌّ: اے۔ حرف ندا۔ حرف تفسیر۔

اِیٌّ: ہاں۔ حرف جواب۔

اِیَّا: اے۔ حرف ندا۔ بعید کے لئے۔

اِیَّآ: اِیَّآبَا۔ اِیَّآةٌ۔ لوٹنا۔ توبہ کرنا۔ سَرِیْعٌ: اِیَّآةٌ۔ جلدی لوٹنے والا۔

اِیَّآبٌ: سقا۔

اِیَّدٌ: مضبوط۔ سخت ہونا۔ قوی ہونا۔

اِیَّادٌ: جس چیز کے ذریعے مضبوطی حاصل کی جائے۔ پردہ۔ پناہ۔ قلعہ۔ پہاڑ۔

أَيُّ: انسان کا عضو متاسل۔ جمع أَيُّور۔

أَيْسٌ: قہر۔ غلبہ پانا۔ ذلیل ہونا۔

أَيْسٌ: ناامید ہونا۔ مایوس ہونا۔ قَدْ أَيْسَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، شَيْطَانِ اس سے ناامید ہو گیا ہے کہ عرب کے جزیرے میں اس کی عبادت کی جائے گی۔

أَيَّاسٌ، أَيَّاسٌ، ناامیدی، الأَيَّاسُ غِنَى، ناامیدی بھی تو لگ رہی ہے۔ (کیوں کہ امید ہی انسان کو محتاج بناتی ہے)

أَيْضاً: لوشا۔ تبدیل ہو جانا۔ دوسری شکل اختیار کرنا۔ آضُ الثَّلْجِ مَاءٌ۔ برف پانی بن گیا۔
أَيْكًا: گنجان ہونا۔ گھٹنا ہونا۔

أَيْكَةٌ: بن۔ گھٹنا جنگل۔ نخلستان۔ درختوں کا جھنڈ، ایک بستی کا نام جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ ع أَيْكٌ۔

أَيْلٌ: عبرانی زبان میں اللہ کا نام۔

إِيَالَةٌ: سیاست۔ حکم رانی۔ قَدْ بَلَّوْنَا فُلَانًا فَلَمْ نَجِدْ عِنْدَهُ إِيَالَةً۔ ہم نے فلاں شخص کو آزما یا مگر اس میں حکم رانی کی لیاقت نہیں پائی۔

إِيْلِيَاءُ: بیت المقدس۔

أَيْلَةٌ: بحر قلزم کے ساحل پر شام کے قریب ایک چھوٹا شہر، یہ حجاز کی آخری حد پر اور سرزمین شام کے شروع میں واقع ہے۔ یہی آصحاب السبت کی بستی ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع

پر یہاں کے حاکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کیا۔

إِيْلَاءٌ: قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ناخوش گوار واقعہ جو ۹ ہجری میں پیش آیا۔ اس کا تعلق ازواج مطہرات سے ایک ماہ تک قطع تعلق کر لینے اور شہدا استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لینے سے ہے۔

أَيْعُرٌ: بغیر خاوند کی عورت، کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا اس کا خاوند مر گیا ہو۔ وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو (خواہ پہلے شادی کی ہو یا نہ کی ہو)

أَيْعُرٌ: نرسانپ۔ جمع أَيُّومٌ۔

أَيْمَنٌ: داہنا ہاتھ۔ وہی طرف۔ خوش نصیب۔ مبارک۔ جمع أَيْمَانٌ۔

أَيْنًا: (ض) وقت آ جانا۔ تھک جانا۔ مصدر ہے۔

الآن: اب۔ اس وقت۔ ابھی۔

أین: نرسانپ۔

أین: کہاں۔ جہاں۔ ظرف مکان۔

أینما: جہاں کہیں۔ أینما تَکُونُوا یُذَرِّکُمْ المَوْتُ: تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں آپکڑے گی۔

أیوان: ایوان۔ محل۔ بڑے لوگوں کی مجلس۔ جمع أو اوین و آیوانات۔

آیة: علامت۔ نشانی۔ عبرت کا سامان۔ جمع آئی و آیات۔ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ

خَلَقَکَ۔ آیة: آج ہم تیری لاش کو بچادیں گے، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے نشانِ عبرت

بن جائے۔ بَلِّغُوا عَنِّی و لَوْ آیةٌ۔ میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک بات ہی سہی۔ آیة

الْحِجَابِ۔ حجاب کی آیت۔

أیهقان: ایک خوش بودار گھاس۔

ایان: کس وقت۔ کب۔

ایان: کس وقت۔ کب۔

انبت: کٹ جانا۔ (قالے سے) پھڑ جانا۔

انبتل: منقطع ہونا۔ جدا ہونا۔

انبت: پھیلنا۔ اڑنا۔ بکھرنا۔ منتشر ہونا۔

انبتات: پھیلنا۔ متفرق ہونا۔ منتشر ہونا۔ جدا ہونا۔

انبتاس: جاری ہونا۔ پھوٹ نکلنا۔

انبتاست: وہ بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ نکلا۔ وہ جاری ہو گیا۔

انبتار: متفرق ہو جانا۔ منتشر ہو جانا۔

انبتاق: آنکھ پھوٹنا۔ باہر نکل آنا۔

﴿ب﴾

ب: حروفِ تہجی کا دوسرا حرف۔ یہ حرف جر ہے۔ اس کے معنی ہیں: ساتھ، سے، ذریعے، بدلے،

سبب۔

بَابَا: عیسائی گرجا کا سربراہ اعلیٰ۔ پوپ۔ جمع بَابَوَاتُ۔

بُوءُ بُوءٍ: اصل۔ درمیانی حصہ۔ آنکھ کی پتلی۔ عقل مند۔ بَابَا الرَّجُلُ۔ آدمی دوڑا۔

بَارٌ: گڑھا کھودنا۔ کنواں کھودنا۔ چھپانا۔ ذخیرہ کرنا۔

الْبَارُ: کنواں کھودنے والا۔

الْبُوءُ رَاةٌ: گڑھا جس میں آگ جلائی جائے۔ ذخیرہ۔ جمع بُوءٍ رٌ

الْبَيْتُ: کنواں۔ جمع أَبْوَةٌ، أَبَارٌ، بِنَارٌ۔

بَأْسًا: محتاج ہونا۔ غریب ہونا۔ بد حال ہونا۔

بَأْسٌ: غریب۔ ضرورت مند۔ تنگ دست۔ مصیبت زدہ۔

بِئْسَ: برا۔ فعل ندمت۔ بِئْسَ الرَّجُلُ۔ آدمی بُرا ہے۔ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ شراب بری ہے۔

الْبَأْسُ: جنگ کی شدت۔ جنگ۔ سخت عذاب۔ خوف۔ جمع أَبْوَةٌ سٌ۔ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ۔ اس کو ڈرنے

کی ضرورت نہیں۔ لَا بَأْسَ فِيهِ۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

إِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَاهُ سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ جب جنگ شدید ہو جاتی

تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے۔

الْبَأْسَاءُ: مشقت۔ غربت۔ بد حالی۔ مصیبت۔ پریشانی۔ لڑائی۔

بَابِلٌ: عراق کی سرزمین پر ایک برباد شدہ قدیم شہر۔ فرات کے کنارے پر وہ مشہور شہر جو کلدانیوں

کا دارالسلطنت تھا، جسے نمرود نے بسایا تھا۔

بَابِلِيٌّ: بابل شہر کی طرف منسوب۔

بَابِلِيَّةٌ: جادو۔ شراب۔ جادوگر۔ عُيُونٌ بَابِلِيَّةٌ۔ جادو کی آنکھیں۔

بَابُوسٌ، بَابُوسٌ: اونٹنی کا بچہ۔ شیر خوار بچہ۔ دودھ پیتا بچہ۔

بَاءَةٌ: عورت کا خرچہ۔ نکاح۔ رہنے کی جگہ۔

بَاجِرٌ: اونچی ناف والا۔ بڑے پیٹ والا۔ تو ندو والا۔ ابھرا ہوا۔

بَارِدَةٌ: خریداری میں نفع۔ محنت کے بغیر حاصل ہونے والا مال۔ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيْمَةُ

بَاهَةٌ: عورت کا خرچہ۔ نکاح۔ رہنے کی جگہ۔

بَالَامٌ: بیل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔

بَلَمَرٌ: سمندر کی چھوٹی مچھلیاں۔

بَاوُ: بَاةٌ: سمجھ جانا، مَا بَاَهُتُ - میں نہیں سمجھا۔ غرور۔ تکبر۔

بَابُو نَيْجٌ: چمٹنا۔ چلانا۔ بدل دینا۔ پھیر دینا۔

بَابُجَةٌ: طرح طرح کے کھانے۔

بَابِجَلٌ: خوش حال۔

بَادِرَةٌ: وہ کالم جو غصے میں منہ سے بے اختیار نکل جائے۔ وہ گوشت جو مونڈھے اور گردن کے

درمیان ہے۔ جمع بَوَادِرُ - كُنَّا لَا نَبِيعُ التَّمَرَ حَتَّى يَبْدُرَ - ہم کھجور کو اس وقت نہ بیچتے

جب تک وہ پک نہ جاتی۔ كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُبَادِرٍ - یتیم کے مال میں سے (بہ

قدر ضرورت) کھا اسراف نہ کر۔

بَادِرُ وُجٌ: ایک مشہور بوٹی۔ اس کو حوک اور ریحان روحانی بھی کہتے ہیں۔ عام لوگ اس کو حَبِيقُ کہتے

ہیں۔

بَادِرُ زُهْرٌ: (فادز ہر کا معرب ہے) زہر مہرہ۔ زہر کا اثر دور کرنے والا۔

الْبَادِيَةُ: جنگل کے رہنے والے۔ جمع بَوَادٍ - تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ: تو بکریوں اور جنگل کو پسند

کرتا ہے۔

بَادِرُ حَنَانٌ: بیگن۔ (مشہور ترکاری)

نَبَّةٌ: جوان۔ موٹا لڑکا۔ اچھے جسم کا نوجوان۔

نَبِيَّةٌ: جوان۔ موٹا۔ ہٹا کٹا۔ نادان۔ بھاری بھر کم۔

نَبَانٌ: طریقہ۔ روش۔ قسم۔

نَبَانٌ: طریقہ۔ روش۔ قسم۔

النَّبِيرُ: بھر شیر۔ چیتا۔ جمع نَبُورٌ - یہ معرب ہے۔

النَّبِغَاءُ: طوطا۔ جمع نَبِغَاوَاتٌ -

نَبَاجٌ: ایک قسم کی مچھلی۔

نَبَاجٌ: ایک قسم کی مچھلی۔

نَبَاتٌ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔

نَبَتْ: (ض، ن) پورا کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ چھوڑ دینا۔ انکار کرنا۔ عاجز کرنا۔ تھکا دینا۔

نَبُوتًا: دبلا ہونا۔ منقطع ہونا۔ کٹ جانا۔ بے وقوف ہونا۔

بُنْتُ: بیٹی۔ جمع بَنَاتٌ۔ یہ ابنُ کا مؤنث نہیں بل کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل لفظ ہے۔
بُنَّةٌ: سامان دینا۔ توشہ دینا۔ موٹی چادر دینا۔ گلزے گلزے کرنا۔
بُنْرًا: کاٹنا۔ جڑ سے کاٹ دینا۔

بَنَاتٌ: کاٹنے والا۔

بُنْرَاءُ: قطعی۔ فیصلہ کن دلیل۔ ایسا خطبہ یا تقریر جس میں حمد و ثنا نہ ہو۔
بُنْرُوْلٌ (زَيْتُ الْحَجَرِ): زمین سے نکلنے والا تیل۔

بُنْعٌ: شہد کی شراب۔ دراز قامت آدمی۔ سُنِبَلٌ عَنِ الْبُنْعِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیع شراب کا پینا کیسا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

بُنْرَاءُ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی زرع۔

بُنْتُكَ: کاٹنا۔ چیرنا۔ اکھیڑنا۔

بَنَاتِكَ: تیز تلوار۔ کاٹنے والی۔ جمع بَوَاتِكَ۔ سَيْفٌ بَنَاتِكَ۔ تیز کاٹنے والی تلوار۔
بَنَاتُكَ: بہت کاٹنے والا۔

بُنْلٌ: کاٹنا۔ جدا کرنا۔ الگ کرنا۔ ممتاز کرنا۔

بُنْبَلَةٌ: تاکید کی۔ قطعی۔ نہ نکلنے والی۔

بُنُوْلٌ: کنواری عورت۔ غیر شادی شدہ عورت۔

بِنَاءٌ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔

بَنْتُ: پھیلا نا۔ جدا کرنا۔ منتشر کرنا۔ اڑانا۔ بکھیرنا۔ ظاہر کرنا۔ کھول دینا۔ بیان کرنا۔ اِنَّ اِبْلِيسَ يَبْتُ جُنُوْدَهُ۔ ابلیس اپنے لشکروں کو پھیلاتا ہے۔

بِنَاءٌ: مقیم ہونا۔ رہنا۔ ٹھہرنا۔

بُنْرٌ: پھنسی لگانا۔ دانے نکلنا۔

بَنَاتٌ: حاسد۔ رسنے والا پانی۔

بَشِيْرٌ: بہت۔ کثیر۔

بُنْرَةٌ: چھوٹی پھنسی۔ چھالہ۔ آبلہ۔ جمع بُنُوْرٌ۔

بِنَطٌ: سوچ جانا۔ ورم کرنا۔ پھول جانا۔

بَفْعٌ: ہونٹوں پر خون نمودار ہونا۔ ہنٹے وقت ہونٹ کا پلٹ جانا۔

بَفْعٌ: ہونٹوں پر یا جسم کے کسی اور حصے پر خون نمودار ہونا۔

بَفْقٌ، بَفْقٌ: پانی بہانے کے لئے نہر کی منڈیر توڑنا۔ سوراخ کرنا۔ آنکھوں سے جلد آنسو نکل آنا۔
بھرجانا۔ ابلنا۔ رواں ہونا۔

بُنُنٌ: کھیریاں۔ باغات۔

بُنْنَةٌ: مکھن۔ موٹی۔ نرم زمین۔ ریتیلی زمین۔

بُنْنَةٌ: دمشق کے اطراف میں ایک مقام جہاں کے گیہوں بہت نرم ہوتے ہیں۔

بُنُوٌ: پسینہ آنا۔

بُنَاءٌ: نرم ہم وار زمین۔

بُنْفَةٌ: پراکھ۔

بَجْبَجَةٌ: بہلانا۔ لوری دے کر سلانا۔ اچھالنا۔ خاموش کرنا۔ بَجْبَجِ الصَّبِيِّ۔ بچے کو بہلانا۔
بچے سے کھیلنا۔

بَجْبَاجٌ: ریت کا ڈھیر۔ موٹا اور ڈھیلے گوشت کا آدمی۔ ایسا آدمی جس کا گوشت ہلتا رہتا ہو۔ خراب آدمی۔

بَجْبَاجَةٌ: ریت کا ڈھیر۔ موٹا تو وہ۔ موٹا اور ڈھیلے گوشت کا آدمی۔ ایسا آدمی جس کا گوشت ہلتا رہتا ہو۔ خراب آدمی۔

بَجٌّ: چیرنا۔ پھاڑنا۔ کاٹنا۔ نیزہ مارنا۔ مقابلے میں غالب آنا۔

بَجَّةٌ: ہکا زخم لگا کر خون نکالنا۔ آنکھ کی پھنسی۔

بَجْحًا: خوش ہونا۔ نازاں ہونا۔ اترانا۔

بُجُوذٌ: مقیم ہونا۔ ٹھہرنا۔ ڈیرہ ڈال دینا۔

بَجَاذٌ: دھاری دار چادر۔ دھاری دار کپل۔ جمع بُجُوذٌ۔

بَجْدٌ: گروہ۔ جماعت۔ ۱۰۰ یا اس سے زیادہ گھوڑے۔ جمع بُجُوذٌ۔

بَجْدَةٌ: جنگلی۔ اصلیت۔ حقیقت۔ علم۔ عِنْدَهُ بَجْدَةٌ ذَالِكُ۔ اسے اس کی حقیقت کا علم ہے۔

ابن بَجْدَةَ الشَّيْءِ۔ حقیقت شناس۔

بُجْرٌ: حال زار۔ سانحہ۔ بلا۔ مصیبت۔ برائی۔ فتنہ۔ شر۔ جمع أَبَا جُرٍّ۔

بَجْرٌ: ناف نکل آنا۔ پیٹ بڑا ہو جانا۔ لٹک جانا۔ سیراب نہ ہونا۔ بھاری ہونا۔
بَجْرَاءُ: بخر زمین۔ اونچی سخت زمین۔ فَأَصْبَحُوا بِأَرْضِ بَجْرَاءَ۔ صبح کو وہ ایک اونچی سخت
زمین پر پہنچے۔

بَجِيرٌ: بہت سامال۔

بُجْرَةٌ: ناف۔ پیٹ۔ گردن کی گرہ۔ عیب۔ جمع بُجْرٌ۔

بَجْسٌ: بہنا۔ جاری کرنا۔ چیرنا۔ بہانا۔

بُجُوسٌ: پانی کا جاری ہونا۔ زمین پھٹ کر پانی نکلنا۔

بِجَاسٌ: گنے کا رس نکالنے کے بعد بچا ہوا پھوک۔

بِجِيسٌ: بہت بہنے والا۔ بَشْرٌ بِجِيسٌ۔ بہت پانی والا کنواں۔

بِجْعٌ: تلوار سے کاٹنا۔

بِعَجَلٍ: بہتان۔ تعجب۔ کم ہمتی۔ الْمُؤْمِنُ لَا يَبْجُلُ وَلَا يَعْجَلُ۔ مسلمان نہ تو بہتان لگاتا ہے

اور نہ جلد بازی کرتا ہے۔

بِعَجَلٌ، بُجُولٌ، بَعَجَلَةٌ: خوش حال ہونا۔ معزز ہونا۔ بھاری جسم والا ہونا۔

بِعَجَالٌ: موٹا۔ بوڑھا۔ بڑا سردار۔

بِعَجَلَةٌ: چھوٹا درخت۔ اچھی شکل۔ شرافت۔

بِعَجَلَةٌ: تعظیم کرنا۔ احترام کرنا۔

بِعَجِيلٌ: ہر موٹی شے۔ بری بات۔

بَجْرٌو بُجُومٌ: خاموش ہو جانا۔ (ڈر سے)۔ دیر کرنا۔ سکتنا۔ سمٹ جانا۔

الْبَجْرُ: ایک بڑی جماعت۔ بڑا گروہ۔ جھاؤ کے درخت کا پھل۔

بَعَجْنٌ: ایک قسم کی چھوٹی سفید مچھلی۔

بَعَجْنٌ: کیل ٹھوکتنا۔

بِعَاوَةٌ: حشیشوں کی ایک قسم۔ ایک ملک جہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں۔

بِعَبْحَةٍ: اترنا۔ اطمینان سے ٹھہرنا۔ وسیع ہونا۔ باغ باغ ہونا۔ قیام کرنا۔

بِعَبْحَاحٌ: جس کا طول و عرض برابر ہو۔ فراخ۔ یک ساں۔ وسیع و عریض۔

بُجُوحٌ: بیچوں بیچ۔ درمیانی میں۔ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بِبُحُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ۔

جس کو یہ اچھا لگے کہ وہ جنت کے بچوں بیچ رہے تو وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے۔ (اہل

حق کی جماعت)

بُحْبُوحَةٌ: ہر شے کا درمیانی حصہ۔ عمدہ حصہ۔ جمع بَحَابِيحُ۔

بُحْبُوحٌ: شریف الطبع۔

بُحْتٌ: سادہ۔ خالص جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ شَرَابٌ بُحْتٌ۔ خالص شراب۔ خُبْرٌ

بُحْتٌ۔ روکھی روٹی۔ رَجُلٌ بُحْتٌ۔ خالص نسب والا آدمی۔ بَرُوذٌ بُحْتٌ۔ سخت سردی۔

بُحْتَرٌ: ایک قبیلہ۔ پسندیدہ اور گھٹے ہوئے جسم والا۔ جَمُّ بَحَاتِرٍ

بُحْتٌ: کھودنا۔ تفتیش کرنا۔ ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔ چھان بین کرنا۔ تحقیق کرنا۔

بَاْحَتٌ: محقق۔ تلاش کرنے والا۔

مَبْحَثَةٌ: بحث۔ تحقیق۔

بَحَاتٌ: بہت بحث کرنے والا۔ بہت تحقیق کرنے والا۔

بُحَاثَةٌ: وہ مٹی جس میں کوئی چیز تلاش کی جائے۔

الْبَحْتُ: تحقیق۔ غور و خوض۔ مطالعہ۔ کان جس میں دھات تلاش کی جائے۔ بڑا سانپ۔ جمع

بُحُوْتُ، أَبْحَاتٌ۔

الْبُحْفَةُ: بچوں کا ایک کھیل جس میں ایک مٹی کے اندر کوئی چیز چھپا دیتا ہے۔ اور دوسرا اسے تلاش

کرتا ہے۔ جمع بُحْفَةٌ۔

الْبُحُوْتُ: وہ چوپایہ جو بیروں سے مٹی کریدتا اور اپنے پیچھے اڑاتا ہے۔

بَحْشَرَةٌ: کھوج لگانا۔ جدا جدا کرنا۔ منتشر کرنا۔ بکھیرنا۔ الٹ پلٹ کرنا۔ آواز بھاری ہونا۔ گلا

بیٹھ جانا۔ برباد کرنا۔

بَحٌّ: آواز کا مونا ہونا۔ گلا بیٹھ جانا۔ آواز بھاری ہونا۔ مَا بَلَّغْنَا الرُّوحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ

أَصْوَاتُنَا۔ ہم روحا تک نہیں پہنچے تھے کہ ہماری آواز بھاری ہو گئیں۔ (لیک پکارتے

پکارتے)

بُحَّةٌ: ٹھکا۔ آواز میں بھاری پن۔ خشونت۔ رَجُلٌ شَحِيحٌ بَحِيحٌ۔ بخیل آدمی۔

بَحْدَلٌ: تیز چلنا۔ مونڈھے کا جھکنا۔ ہلکی دوڑ۔

بَحْدَلٌ: تیز چلنا۔ مونڈھے کا جھک جانا۔ ہلکی دوڑ۔

بَحْرٌ: چیرنا۔ پھاڑنا۔ کان چیرنا۔ سمندر۔ دریا۔ بڑا عالم۔ بڑا بخی۔ اِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا۔ ہم نے اس (گھوڑے) کو دریا کی طرح پایا۔

بَحْرٌ: ڈر کر حیران ہونا۔ سمندر کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا۔ بہت پیاسا ہونا۔ گوشت جاتے رہنا۔
الْبَاحِرُ: بیوقوف جو بول کر خوف زدہ ہو جائے۔ فضول گو۔ جھوٹا۔ خالص سرخ خون۔
الْبَاحِرَةُ: بہت دودھ والا جانور۔ جمع بَوَاحِرُ۔

بَاحِرٌ: ایک بت کا نام۔

بَاحُورٌ: چاند۔ سخت گرمی۔

بَحَّارٌ: ملاح۔ کشتی اور جہاز چلانے والا۔ جمع بَحَّارَةٌ۔

بُحْرَانٌ: بیماری میں تغیر کی حالت۔ دیوان گی حالت۔

بَحْرَيْنٌ: بصرے اور عمان کے درمیان ایک مقام۔

بَحْرِيَّةٌ: بحری طاقت۔ سمندری فوجی بیڑہ۔ نیوی۔

بُحَيْرَةٌ: جمیل۔ جمع بُحَيْرَاتٌ۔

بَحِيرَةٌ: کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی۔

بَحْشٌ: جمع ہونا۔ کھودنا۔

بَحْظَلَةٌ: کودنا۔ اچھلنا۔

بَحْنَانَةٌ: آگ کا شعلہ۔ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَخْرُجُ بَحْنَانَةٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَتَلْقُطُ الْمُنَافِقِينَ

لَقَطُ الْحَمَامَةِ الْقُرْطُمُ۔ قیامت کے دن دوزخ سے ایک شعلہ نکلے گا اور منافقوں کو اس

طرح چین لے گا جیسے کوتر قرطم کے بیج چین لیتا ہے۔

بَحْوَنَةٌ: ٹھلنے والی عورت۔ بڑے پیٹ کی مشک۔

بَيْخٌ: واہ واہ۔ شاباش۔ قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، قَالَ

رَجُلٌ بَيْخٌ بَيْخٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ،

تو ایک شخص نے کہا بَيْخٌ بَيْخٌ (واہ واہ کیا عمدہ نعمت ہے)

بَيْخَاخٌ: گرمی سے بچنا۔ اونٹ کا بولنا۔ اونٹ کا بلبلانا۔ ڈھیلا پڑ جانا۔ خراٹے لینا۔

بَيْخَاخًا: گرمی سے بچنا۔ اونٹ کا بلبلانا۔ ڈھیلا پڑ جانا۔

بَيْخَاخٌ: ڈھیلے پیٹ والا۔

بُخِبُخُوا: ٹھنڈا کرو۔

بُخْتُ: مارنا۔ قسمت۔ نصیب۔ جمع بُخُوتٌ۔ کتاب فَتْحِ الْبُخْتِ۔ نجومی کی کتاب جس سے وہ لوگوں کو اس کی قسمت بتاتا ہے۔ فَاتِحُ الْبُخْتِ۔ نجومی۔ خوشی۔

بُخْتٌ: وہ بزدل ہوا۔

بُخْتُ: خراسانی اونٹ۔ جمع بُخَاتَى۔

بُخَاتٌ: بختی اونٹ والا۔

بُخِيْتُ: خوش قسمت۔ خوش نصیب۔

بُخِيَّةٌ: لمبی گردن والی اونٹنی۔ فَأُوْتِي بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ بُخِيَّةً۔ آپ کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے بختی اونٹنی چرائی تھی۔ رُءٌ وَسُهْنٌ كَأَسْمَةِ الْبُخْتِ۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوبانوں کی طرح ہوں گے۔

بُخْتَجٌ: پکایا ہوا شیرہ۔ ایسا شیرہ جس کا ایک تہائی جل گیا ہو۔ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُخْتَجِ فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلُوءًا يَنْخَضُ الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُهُ۔ میں نے آپ سے پوچھا بُخْتَجِ پینا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر شیریں ہے، برتن کورنگین کر دے تو اس کو پی لو۔

بُخْتَرَةٌ: اکڑ کر چلنا۔ ناز و انداز سے چلنا۔ تکبر کے ساتھ چلنا۔

بُخْتِيرٌ: اکڑ کر چلنے والا۔ غرور کے ساتھ چلنے والا۔

بُخْتَرَةٌ: جدا جدا کر دینا۔ الگ الگ ہونا۔

بُخْتِنَةٌ: دیر کرنا۔ تاخیر کرنا۔

بُخٌّ: تعجب کرنا۔ غرور کرنا۔ غصہ تھم جانا۔ خراٹے لینا۔

بُخْنَدَاةٌ: وہ عورت جس کی پنڈلی گوشت سے پر اور ابھری ہوئی ہو۔ اِبْنُ خَنْدَى الْبَعِيرِ۔ اونٹ بڑا اور پر گوشت ہوا۔

بُخْرٌ: بھاپ نکلنا۔ دھواں بلند ہونا۔

بُخْرٌ: گندہ دہن ہونا۔ منہ میں بد بو ہونا۔

بُخَارٌ: بھاپ جو گرم چیز سے نکلے۔

بُخُورٌ: جس کی دھوئی لی جائے۔ جیسے عود۔ عنبر۔ لوبان وغیرہ۔

بَاخِرَةٌ: سمندری جہاز۔ جمع بَوَاخِرٌ۔

بُخَارِيٌّ: دخانی۔ بھاپ دار۔

بُخْرٌ: پھوڑنا۔

بُخْسٌ: کم کرنا۔ ظلم کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ حق تلفی کرنا۔ عیب لگانا۔ بَخَسَ مَخَّ الْعَظْمُ: کم زوری سے ہڈیوں کا گودا کم ہو گیا۔ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ وَالْحَمْرُ بِالْبَيْدِ وَالْبَخْسُ بِالزُّكُوفِ۔ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو بیع اور شراب کو بیڈ اور بخش کو زکوٰۃ کہہ کر حلال کر لیں گے۔ بَخَسَتْ صَلَوَتُهُ اس کی نماز ناقص ہو گئی۔

بَخْسٌ: سوراخ کرنا۔

بَخْشِيشٌ: عطیہ۔ انعام۔ جمع بَخَائِشِيشٌ۔

بَخْصٌ: آنکھ پھوڑنا۔ آنکھ نکالنا۔

بَخْصٌ: تلوے اور ایزی کے کم گوشت والا ہونا۔

بَخْعٌ: ہلکان کرنا۔ غصے سے خود کو گھلانا۔ ذلیل کرنا۔ مغلوب کرنا۔ کنوان اتنا کھودنا کہ پانی نکل آتا۔ خالص خیر خواہی کرنا۔ زمین ہر سال کاشت کرنا۔ بَخَعَتْ الْأَرْضُ بِالزَّرَاعَةِ: میں لگاتار زمین کاشت کی۔

بِخَاعَةٌ: اقرار کرنا۔ حق کے سامنے جھک جانا۔ عاجزی کرنا۔

بُخُوعٌ: اقرار کرنا۔ حق کے سامنے جھک جانا۔ عاجزی کرنا۔

بِخَاعٌ: پشت کی ایک رگ جو گردن میں بھی آتی ہے۔

بِخُقٌ: کانا کرنا۔ آنکھ پھوڑنا۔

بِخُقٌ: بیٹائی جاتی رہنا اور آنکھ قائم رہنا۔ نَهَى عَنِ الْبِخْقَاءِ فِي الْأَصْحَابِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں کانی بکری دینے سے منع فرمایا۔

بِخَاقٌ: زبھیر یا۔

بُخْلٌ: کنجوسی کرنا۔ تنگی کرنا۔ روکنا۔ خرچ نہ کرنا۔

بِخْلٌ: کنجوسی کرنا۔ تنگی کرنا۔ روکنا۔ خرچ نہ کرنا۔

بَاخِلٌ: کنجوسی کرنے والا۔ تنگی کرنے والا۔ روکنے والا۔ خرچ نہ کرنے والا۔

بَدْعٌ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا۔ منتقل کرنا۔ بَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدْيَئِ

الْحُلَيْفَةِ مَبْدَعٌ۔ حج شروع کرتے وقت آپ مدینے سے نکل کر رات کو ذوالحلیفہ میں

رہے۔

بَخَّالٌ: انتہائی کجخوس۔

بَخْنَقٌ: نقاب۔ برقع۔ جمع بَخَانِق۔

بَادِيٌّ: ابتدا کرنے والا۔ آغاز کرنے والا۔ پہل کرنے والا۔

بُدْحٌ: کھول دینا۔ کشادہ کرنا۔

بُدْحٌ: کاٹنا۔ پھاڑنا۔ پیش آنا۔ فاش کرنا۔ تھک جانا۔ اچھی چال سے چلنا۔ راز کھولنا۔

بَدَّأَ: کشادہ زمین۔ نرم زمین۔

بَدَّ: پریشان کرنا۔ دور رکھنا۔ جدا کرنا۔

بَدَّةٌ: حصہ۔

بَدَّ: چارہ علاج۔ لَا بَدَّ مِنْ كَذَا۔ اس کے سوا کیا چاہ ہے۔

بَدَّأَ بَدَّأً: الگ الگ۔ جدا جدا۔ بَدَّدَ لِلَّهِ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اللہ اس کی

ہڈیاں جدا جدا کر دے گا۔

بَدَّدَ: تتر بتر کرنا۔

بَدْرٌ: پورا چاند۔ پورا جوان۔ ایک مقام یا کنواں جہاں ہجرت کے دوسرے سال کافروں سے پہلی

جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ اور کافروں کی تعداد

۱۰۰۰ تھی۔ اس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ فَاتَى بَدْرٍ فِيهِ بُقُولٌ۔ آپ کے

پاس ایک طباق لایا گیا جس میں ترکاریاں تھیں۔

بَدْرِيٌّ: وہ صحابی جو جنگ بدر میں شریک ہو۔ احادیث میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے

صحابہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اول وقت ہوئی جانے والی کھتی۔

بَدَّعٌ: شروع کرنا۔ ایک نئی چیز نکالنا۔ ایک نئی چیز پیدا کرنا جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو۔

کنواں کھودنا۔

بَدَّعٌ: مونا ہونا۔

بَدِيعٌ: اللہ تعالیٰ کا نام۔ موجد۔ نمونے کے بغیر چیز بنانے والا۔ جمع بَدَائِع۔

بَدَائِعٌ: انوکھی چیز۔

بَدَّلَ: بدل دینا۔ عوض لینا۔

بَدِيلٌ: بدل دینا۔ عوض لینا۔

بَدَلٌ: جوڑون کی بیماری ہونا۔

بَدِيلَةٌ: بیوی۔ جوڑو۔ متبادل کے طور پر تیار کی ہوئی چیز۔

بَدَالٌ: پرچون فروش۔ (اشیاء خوردنی تیل، شکر، صابن وغیرہ بیچنے والا)۔ بقال۔ صرف۔ سکہ تبدیل کرنے والا۔

بَدَلَةٌ: یونینفارم۔ سوٹ۔ کپڑوں کا جوڑا۔ جمع بَدَالَاتُ۔

بَدَنٌ: بھاری بھرکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ موٹے بدن والا ہونا۔ جمع بُدُنٌ۔

بَدَانٌ: بھاری بھرکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ موٹے بدن والا ہونا۔ جمع بُدَانٌ۔

بَدْنٌ: کم زور ہونا۔ عمر رسیدہ ہونا۔ جانور کو موٹا کرنا۔ کسی کو زور پہناتا۔

بَدَنَةٌ: اونٹنی یا گائے جو مکے میں قربان کی جائے۔ جمع بُدُنٌ۔ اُنْبِیَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِخَمْسِ بَدَنَاتٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ بدنے لائے گئے۔

بَدَانَةٌ: موٹا پا۔ بھاری جسم۔

بَادِنٌ: موٹا۔ بھاری جسم۔

بَدَةٌ: اچانک آنا۔ شروع کرنا۔ استقبال کرنا۔

بِدَاةٌ: اچانک آنا۔

بُدَاهَةٌ: ہر چیز کا شروع۔ جو اچانک آئے۔ سوچے سمجھے بغیر بات کہنا۔

بِدَاهَةٌ: برجستگی۔ بے ساختگی۔ افکار و خیالات کا واضح و موثر ہونا۔

بَدِيهِيٌّ: وہ امر جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔

بَدْوٌ: ظاہر ہونا۔ نیا خیال پیدا ہونا۔ جنگل میں جا کر رہنا۔ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بَدْوِ

هَصَلَا جَهَا۔ آپ نے پھل کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے اسے فروخت کرنے سے منع فرمایا

الْبَدْوَةِ: صحرائی زندگی۔ جنگلی پن۔ بدویت۔ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ۔ میں نے حضرت

عائشہ سے پوچھا کہ جنگل میں جا کر رہنا کیسا ہے۔

بُدِيءٌ: وہ کنواں جو اسلام کے زمانے میں کھودا گیا۔

بَدَاءٌ: ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔ مذمت کرنا۔ بد زبان ہونا۔ برائی کرنا۔ گالی دینا۔ اَرْضُ بَدِيئَةٍ۔

ایسی زمین جس میں گھاس و چارہ نہ ہو۔

بَدَاءَةٌ: بد زبانی۔ بد کلامی۔

بَدَّحٌ: بکری کا ایک سال کا بچہ۔ جمع بَدَّحَانٌ۔

بَدَّرَجٌ: ایک ترکاری۔ ایک بھاجی۔

بَدَّحٌ: چیرنا۔ چمکاکا اتارنا۔ چھیلنا۔ پھاڑنا۔

بَدَّحٌ: بلندی۔ غرور۔ فخر۔

بَادِخٌ: بلند۔ بڑی شان والا۔ عالی۔ اترانے والا۔ منکبر۔ جمع بَدَّخَاءٌ، بَوَادِخٌ، بَدَّخٌ۔ جِبَالٌ

بَوَادِخٌ۔ بلند پہاڑ۔

بَدَّاحِيٌّ: بڑا۔

بَدَّ: غالب ہونا۔ ٹوٹنا۔ بٹورنا۔

بَدَّيْنَةٌ: غالب ہونا۔ ٹوٹنا۔ بٹورنا۔

بَدَّدَ: پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ برے حال میں رہنا۔ شکستہ حالی۔

بَدَّدَ: پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ برے حال میں رہنا۔ شکستہ حالی۔

بَدَّدَ: پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ برے حال میں رہنا۔ شکستہ حالی۔

بَدَّرَ: بیچ ڈالنا۔ کھتی کرنا۔ جدا جدا کرنا۔ پھیلانا۔ بات کا افشا کرنا۔ فضول خرچ ہونا۔

بَدَّرَ: مال کو بیجا خرچ کرنا۔ اسراف کرنا۔ خراب کرنا۔ آدمی کو آزمانا۔

بَدَّرَ: بہت باتیں کرنا والا۔ راز فاش کرنے والا۔

بَدَّارَةٌ: پریشان ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ راز فاش کرنا۔

بَدَّوْرٌ: بہت باتیں کرنے والا۔ راز فاش کرنے والا۔ چغل خور۔

بَادَرُوْجٌ: ایک ترکاری۔ ایک بھاجی۔ كَانَ يُعْجَبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنَ الْبُقُوْلِ الْبَادَرُوْجِ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکاریوں میں باذروج پسند تھی۔

بَدَّرَ: بیچ۔ پودا۔ نسل۔ جمع بَدَّوْرُوْ بَدَّارٌ۔

بَيْدَارٌ: باتونی۔ فضول گو۔

بَدَّقٌ: راہ بتانے والا۔ سفر کا راہ نما۔ جمع بَيْدَائِقٌ۔

بَادِقٌ: انگور کا شیرہ جو تھوڑا سا پکا لیا جائے۔

بَادِقَةٌ: پیادہ لوگ۔ پیدل سفر کرنے والے۔

بَذَلٌ: دینا۔ سخاوت کرنا۔ خرچ کرنا۔ خوشی سے دینا۔ بَذَلَ جُهْدَهُ۔ اس نے مقدور بھر کوشش کی۔ بَذَلَ نَفْسَهُ۔ اس نے اپنی جان کی قربانی دی۔

بِذْلَةٌ: وہ کپڑا جو آدمی کام کاج اور محنت و مزدوری کے وقت پہن لیتا ہے۔
بَدَاءٌ: فُحْش بکنا۔ گالیاں دینا۔ زبان درازی کرنا۔ الْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ۔ فحش بکنا سنگ دلی اور ستم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُغِضُ الْفَاحِشَ الْبِدِيَّ۔ اللہ تعالیٰ فحش گوزبان دراز کا دشمن ہے۔

بَذَمٌ: مضبوط ہونا۔ محتاط ہونا۔ پختہ رائے والا ہونا۔ قُبُوبٌ بَذَمٌ۔ دبیز کپڑا۔

بُذْمٌ: رائے کی پختگی۔ دورانہدیشی۔ مستقل مزاجی۔

بِذْيَعٌ: مستقل مزاج آدمی۔ پختہ رائے والا۔

بِرْوَةٌ: پیدا کرنا۔

بِرُوءٌ: پیدا کرنا۔

بَارِيءٌ: خالق۔ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔

بِرَاءٌ: بری۔ بیزار۔ پاک ہونا۔ اَنَا مِنْكَ بِرَاءٌ۔ میں تجھ سے تنگ ہوں۔

بِرْوَةٌ: بیماری سے اچھا ہونا۔ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِءٌ: اللہ کے فضل سے آج آپ کا مزاج اچھا ہے۔ أَرَاكَ بَارِءًا۔ میں تمہیں تندرست دیکھتا ہوں۔

بِرِيءٌ: بے قصور آدمی۔ بے گناہ۔

بِرَاءَةٌ: چھٹکارا۔ صفائی۔ بیزاری۔ بے تعلق۔

بِرِيئَةٌ: مخلوق۔ جمع برایا۔

بِرِيئَةٌ: مخلوق۔ جمع برایا۔

بِرْبْرَةٌ: بک بک کرنا۔ غصے میں بڑبڑانا۔ فضول باتیں کرنا۔ أَخَذَ اللَّوَاءَ غَلَامٌ أَسْوَدٌ فَنَصَبَهُ وَبُرْبُرًا۔ ایک کالے غلام نے جھنڈے کو کھڑا کیا اور بڑبڑایا۔

بُرْبُرٌ: ایک حبشی قوم۔ وحشی۔

بِرْبَطٌ: ستار جس میں چھ تار ہوتے ہیں۔ لَا قَدَسَتْ أُمَّةٌ فِيهَا الْبِرْبَطُ۔ وہ امت پاک نہ ہوگی

جو ستار رکھے (بجایا کرے)

بُرْتَقَالٌ: موسیٰ۔ نارنگی۔ سنگترہ۔

بُرْتَقَالِيٌّ: نارنگی رنگ کا۔

بَرْتُ: نرم ریتی۔ نرم زمین۔ ہم وارز میں۔

بُرُونٌ: درندے کا بچہ۔ چنگل۔ جمع بَرَاوِنٌ۔ بَرَاوِنُ الْاِسْتِعْمَارِ۔ سامراجی بچے۔ كَالذَّهَبِ

اَفْرُغْ عَلٰی بَرَاوِنِهِ۔ گویا سونا آپ کے بچوں پر ڈالا گیا ہے۔

بُرْمَةٌ: شوکت۔ قوت۔ ایک پہاڑ کا نام۔

بَرْنَاوِنٌ: بدر کے راستے میں ایک وادی۔

بَرَجٌ: خوب صورت۔

بُرُوجٌ: آسمان بارہ حصوں میں سے ایک حصہ۔ قلعہ۔ محلہ۔ گنبد۔ اس کی جمع بُرُوجٌ وَ اَبْوَاجٌ ہے

بُرُجَيْسٌ: مشتری تارہ۔ (جو ایک ہزار زمین کے برابر ہے)

بُرُجْمَةٌ: انگلی کی گرہ۔ درمیان کی گرہ۔ قَطْعُ بَرَاوِنَةٍ۔ اس نے اس کی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے

بَرَّخٌ: غصے ہونا۔ سختی۔ تکیف۔ لَقِينَا مِنْهُ الْبَرَّخَ۔ ہم نے اس تکیف اٹھائی۔

بَرَّخٌ: ہٹ جانا۔ الگ ہو جانا۔

بَرَّاحٌ: ہٹ جانا۔ الگ ہو جانا۔

بَارِحَةٌ: گزشتہ رات۔

بَرَّاحٌ: صراحت۔ کھلم کھلا۔ جَاءَ بِالْكَفْرِ بَرَّاحًا۔ اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔

بُرْحَةٌ: عمدہ اونٹنی۔

بَرَّخٌ: تکیف دور کرنا۔ مصیبت دور کرنا۔ بَرَّحْتُ بِنِي الْحُمَى، مجھے بہت سخت بخارا آیا۔

بَرْدٌ: ٹھنڈا ہونا۔ ٹھنڈا کرنا۔ مرجانا۔ ست پڑ جانا۔ برف ملانا۔ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَيْلَةَ ذَاتِ بَرْدٍ۔

ایک سردی کی رات میں آپ کے گھر میں نماز پڑھی۔ بَرْدُ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے

بعد ٹھنڈی زندگی۔

بَرِيْدًا: ڈاک روانہ کرنا۔

بُرَادٌ: ست ہو جانا۔ کند ہو جانا۔ ٹھنڈا ہونا۔ کام کا آسان ہو جانا۔ تلوار کا چٹ جانا۔

بُرُوْدٌ: ست ہو جانا۔ کند ہو جانا۔ ٹھنڈا ہونا۔ کام کا آسان ہو جانا۔ تلوار کا چٹ جانا۔

بَرْدَانٌ: صبح وشام۔ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھا

کرے (فجر اور عصر) وہ جنت میں جائے گا۔